

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَا آتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَوَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

رسول اللہ تمہارے پاس جو احکام لائیں ان کو اختیار کرو

اور جن باتوں سے تم کو روکیں ان سے باز رہو۔

آیاتِ قرآنی، احادیثِ نبیؐ اور فرامینِ مہدیؑ کا مجموعہ

A collection of the Verses of Qur'an Ahadith
of Prophet PBUH and saying of Mahdi AS

موسوم بہ

شمع ہدایت

SHAMA -E- HIDAYAT

{ ناشر }

مولانا صوفی میموریل لائبریری چیپل گوڑہ، حیدرآباد

طبع سوم جمادی الثانی ۱۴۴۶ھ ڈسمبر ۲۰۲۴ء

کمپیوٹر کتابت: SAN: کمپیوٹر سنٹر نی سڑک، چیپل گوڑہ، حیدرآباد

Cell No 9959912642

پیش لفظ

حمد و ثناء سزاوار ہے اُس خدائے بزرگ و برتر کے لئے جو خالق کائنات ہے اور درود و سلام خاتمین علیہا السلام پر جو رحمتہ للعالمین بنا کر مبعوث کئے گئے اور اُن کی آل و اصحاب پر۔

دور حاضر میں مادہ پرستی اور ارتداد عروج پر ہے۔ مذہب سے عدم واقفیت کی وجہ سے گمراہی عام ہے اور شکوک و شبہات کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ نونہالان ملت کو اس گمراہی کی آندھی سے محفوظ رکھنے کے لئے مرکزی انجمن مہدویہ حیدرآباد نے دینی مدارس میں نصاب کے ایک جزو کے طور پر رائج کرنے کے لئے جناب سید افتخار اعجاز صاحب اور جناب شیخ چاند ساجد صاحب کا مرتبہ زیر نظر رسالہ ”شمع ہدایت“ پہلی بار ڈاکٹر محمد محبوب خاں مرحوم کے دور صدارت میں ۱۹۷۹ء م ۱۳۹۹ھ میں شائع کیا گیا تھا۔ پھر عالی جناب الحاج سرور علی خاں صاحب صدر مرکزی انجمن مہدویہ کے دور صدارت میں ۲۰۰۵ء م ۱۴۲۶ھ میں اس کتاب کی افادیت کے پیش نظر مزید اضافوں کے ساتھ اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا گیا۔ اب اردو سے ناواقف نوجوانوں کی سہولت کے لئے انگریزی ترجمہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ جناب سید افتخار اعجاز صاحب نے اپنی مصروفیت کے باوجود مزید آیات قرآنی، احادیث نبوی ﷺ اور فرامین امامنا کا انتخاب کر کے اس میں شامل کیا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ آمین

میں جناب شیخ چاند ساجد صاحب، صدر ادارہ حیات و ممات کا بھی ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اپنی عدیم الفرستی کے باوجود انگریزی میں ترجمہ کیا اور کتابت کی تصحیح فرمائی۔

دینی مدارس کے معلمین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس رسالہ کو نصاب میں شامل کریں اور بچوں کو یہ آیات، احادیث اور فرامین کو زبانی یاد دلائیں تاکہ ان کے قلب و ذہن ابتداء ہی میں اس شمع ہدایت سے منور ہو جائیں۔

محمد محمود الحسن خان صوفی

جمادی الثانی ۱۴۴۶ھ م ڈسمبر ۲۰۲۴ء

بانی مولانا صوفی میموریل لائبریری چنچل گوڑہ حیدرآباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

°In the name of Allah the Most Compassionate the Merciful

ارشادات قرآنی

اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے -

Allah the Exalted says in the Holy Qur'an

۱- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (الانفال)

اور اگر تم (سچے) مسلمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔

Obey Allah and His Messenger if you are (true) believers (8:1)

۲- وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران)

اور سب (ملکر) مضبوطی سے اللہ (کے دین) کی رسی کو پکڑے رہو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔

And hold firmly together to the rope of Allah and do not be divided.(3:103)

۳- وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (لقمان)

اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور بُرے کاموں سے منع کیا کرو۔

Enjoin what is good and forbid what is evil (31:17)

۴- وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدہ)

اور نیکی اور پرہیزگاری (کے کاموں) میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جاؤ۔

Cooperat with one another in goodness and righteousness (5:2)

۵۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ)

اور گناہ اور زیادتی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔

And do not cooperate in sin and transgression (5:2)

۶۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء)

اور اللہ سے معافی چاہو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

And seek Allah's forgiveness indeed, Allah is
All-Forgiving Most Merciful (4:106)

۷۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (بنی اسرائیل)

اور (مسلمانو) اللہ کے سوانہ تو تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ کوئی مددگار۔

And you have no guardian or helper beside Allah (2:107)

۸۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ مُسْلِمَانِ تَو (آپس میں) بھائی بھائی ہیں۔

Indeed the believers are one brotherhood (49:10)

۹۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ تَو اپنے دو بھائیوں میں میل جول کر دیا کرو۔

So make peace between your brothers (49:10)

۱۰۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات)

اور خدا سے ڈرتے رہو کہ (خدا کی طرف سے) تم پر رحم کیا جائے۔

And be mindful of Allah so you may be shown mercy (49:10)

۱۱۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ط (النساء) بے شک اللہ بڑا علم والا اور خبر رکھنے والا ہے

Surely Allah is All-Knowing, All-Aware (4:35)

۱۲۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔"

Surely Allah is most capable of everything (2:20)

۱۳۔ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (التوبہ)

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔

The believers, both men and women, are guardians of one another.(9:71)

۱۴۔ لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّيْنِ (البقرہ) دین میں زبردستی نہیں۔

Let there be no compulsion in religion.(2:256)

۱۵۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (البقرہ) بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

Surely Allah is with those who are patient (2:153)

۱۶۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (الہمزہ)

ہر شخص جو (لوگوں کی) عیب چینی کرتا (اور ان پر) آوازیں کستا ہے اُس کی بڑی تباہی ہے۔

Woe to every backbiter, Slanderer (104:1)

۱۷۔ اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ (الحجرات) کا نا پھوسی ایک شیطانی حرکت ہے۔

Secret talks are only inspired by Satan.(58:10)

۱۸۔ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُفْسِدُوْهُ (الضحیٰ) یتیم پر (کسی طرح کا) ظلم نہ کرنا۔

So do not oppress the orphan (93:9)

۱۹۔ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَوْهُ (الضحیٰ) اور سائل کو نہ جھڑکنا۔

Nor repulse the beggar (93:10)

۲۰۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ (لقمان) اور لوگوں سے بے رُخی نہ کر۔

And do not turn your nose up to people (31:18)

۲۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدہ) اے مسلمانو! اپنے وعدوں کو پورا کرو۔

O believers! Honour your obligations. (5:1)

۲۲۔ وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الانعام)

اور فضول خرچی نہ کرو، کیوں کہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔

Do not waste. Surely He does not like the wasteful (6:141)

۲۳۔ وَلَا تَكُنْ لِلخَائِنِينَ خَصِيمًا (النساء) اور دغا بازوں کی طرف دار نہ بنو۔

So do not be an advocate for the deceitful (4:105)

۲۴۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ (ابراہیم)

ایسا ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔

Do not think 'O Prophet' that Allah is

unaware of what the wrongdoers do (14:42)

۲۵۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ط (الحجر)

نیک اور پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔

Indeed, the righteous will be amid Gardens and springs. (15:45)

۲۶۔ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط (التغابن)

جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے۔

No calamity befalls (anyone) except by Allah's Will (64:11)

۲۷۔ وَاللَّهُ رُؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (البقرہ) اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔

And Allah is Ever Gracious to (His) servants (2:207)

۲۸۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط (البقرہ)

زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کے لئے ہے۔

To Allah (alone) belongs whatever is in the heavens
and whatever in on the earth (2:284)

۲۹۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط (البقرہ) اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام

But Allah has permitted trading and forbidden
interest.(2:275)

۳۰۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط (العنکبوت)

بے شک نماز بے حیائی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔

Indeed, the prayer deters (one) from indecency and
wickedness (29:45)

۳۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ط (البقرہ)

اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔

O believers! Fasting is prescribed for you.(2:183)

۳۲۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء)

یقیناً نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے۔

Indeed, performing prayers is a duty on the believers
at the appointed time (4:103)

۳۳۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرہ)

اور نماز قائم (پابندی سے ادا) کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔

Establish prayer (salah), and pay alms-tax (zakat). (2:43)

۳۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبہ)

مسلمانو! خدا (کے غضب) سے ڈرو اور صادقین کی صحبت میں رہو۔

O believers! Be mindful of Allah

and be with the truthful (9:119)

۳۵۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (النساء) کہدو (اے محمد) کہ متاع دنیا چند روزہ ہے۔

Say, O Prophet, The enjoyment of this world is so little (4:77)

۳۶۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (ص)

اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ تم کو خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی۔

And do not follow (your) desires or they will lead you astray from Allah's Way (38:26)

۳۷۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (حدید)

دنوی زندگی تو دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔

The life of this world is no more than the delusion of enjoyment (57:20)

۳۸۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (البقرہ) اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔

And Allah is swift in reckoning (2:202)

۳۹۔ وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (ال عمران)

اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اُس کی تسبیح بیان کرو۔

Remember your Lord often and glorify Him morning
and evening (3:41)

۴۰۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ (النساء)

اے ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم حالت نشہ میں ہو۔

O believers! Do not approach prayer while
intoxicated(4:43)

۴۱۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

(آل عمران - ۱۹) کہہ دو کہ خدا اور اُس کے رسول کا حکم مانو۔

اگر نہ مانیں تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

Say O Prophet, "Obey Allah and His Messenger" If
they still turn away. then truly Allah does not like the
disbelievers. (3:32)

۴۲۔ وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا اَبَدًا (جن - ۳۲)

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو ان کے لئے جہنم کی آگ ہے۔

جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

And whoever disobeys Allah and His Messenger will
certainly be in the Fire of Hell,, to stay there forever
and ever (72:23)

۴۳۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ (حم سجدہ۔ ۸)
جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اُن کے لئے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔

But those who believe and do good will certainly
have a never- ending reward.(41:8)

۴۴۔ وَ اَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (بقرہ۔ ۱۹۵)
اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

And do good, for Allah certainly loves the
good-doers.(2:195)

۴۵۔ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ (اعراف۔ ۵۶)
کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔

Indeed, Allah's mercy is always
close to the good-doers(7:56)

۴۶۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (توبہ۔ ۱۲۰)
کچھ شک نہیں کہ خدا نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

Surely, Allah never discounts the
reward of the good-doers.(9:120)

۴۷۔ هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ (رحمن) نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں

Is these any reward for goodness except
goodness?(55:60)

۴۸۔ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (اعراف-۵۶)

اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔

Do not spread corruption in the land
after in has set in order.(7:56)

۴۹۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (بقرہ-۸۳) اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔

Speak kindly to people(2:83)

۵۰۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (احقاف-۱۳)

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو
اُن کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

Surely those who say "Our Lord is Allah" and then remain
steadfast-there will be no fear for them, nor will they grieve.(46:13)

۵۱۔ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران-۱۹) دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے

Certainly, the religion with Allah is only
Islam(surrender to His will and guidance) (3:19)

۵۲۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (بقرہ-۲۳۱)

اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

And know that Allah has perfect
knowledge of all things.(2:231)

۵۳۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (بقرہ-۲۳۵)

اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور حلیم والا ہے۔

And know that Allah is All-Forgiving Most Forbearing (2:235)

۵۴۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (عمران-۴) اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔

Allah is Almighty, capable of Punishment(3:4)

۵۵۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (عمران-۴) اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

And Allah is the Lord of Infinite bounty (2:105)

۵۶۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (نساء-۸۶)

بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔

Surely Allah takes count of all things(4:86)

۵۷۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (ود-۶۱)

بے شک میرا پروردگار نزدیک (بھی ہے اور دُعا کا) قبول کرنے والا بھی ہے

Surely my Lord is Ever Near (11:61)

۵۸۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (کہف-۴۵)

اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

And Allah is fully capable of (doing) all things. (18:45)

۵۹۔ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَوَاحِدٌ (کہف-۱۰) تمہارا معبود (وہی) ایک معبود ہے۔

Your deity is only One Allah (18:110)

۶۰۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ (الحج-۶۵)

بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان۔

Surely Allah is Ever Gracious and Most Merciful to humanity (22:65)

۶۱۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا (احقاف-۱۵)

اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔

We have commanded people to honour their
parents(46:15)

۶۲۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (زلزال-۶، ۷)

تو جس نے ذرہ بھرنیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔
اور جس نے ذرہ بھربرائی کی ہوگی وہ اُسے دیکھ لے گا۔

So whoever does an atom's weight of good will see it. And
whoever, does an atom's weight of evil will see it.(99:7'8)

۶۳۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

(بنی اسرائیل-۷۲)

اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے راستہ سے بہت دور

But whoever is blind in this world will be blind in the Hereafter
and (even) far more astray from the(right) Way. (17:72)

۶۴۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (بقرہ-۲۱۲)

اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔

And Allah guides whoever He wills to the Straight path (2:213)

(۶۵) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرہ-۲۳۳)

اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔

And know that Allah is All-Seeing of what you do(2:233)

☆☆☆☆☆☆

احادیث

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

Ahadith

The Messenger of Allah ^{PBUH} said

۱۔ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جنت کی کنجی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

The key of the Paradise is Laa ilaaha illallah

۲۔ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا۔

Whoever obeyed Allah, Indeed he succeeded

۳۔ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

The actions are (judged) by motives (niyyah)

۴۔ الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ نماز دین کا ستون ہے۔

The prayer is a pillar of the faith.

۵۔ الصَّلَاةُ مِفْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ نماز تمام نیکیوں کی کنجی ہے۔

The prayer is the key of all good deeds

۶۔ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے

Omission of the prayer connects the man with disbelief.

۷۔ صَوْمُوا تَصِحُّوا روزه رکھو تندرست رہو۔

Observe fast and be healthy.

۸۔ الصَّوْمُ جُنَّةٌ روزه ڈھال ہے۔

The fast is a shield from the Hell Fire.

۹۔ ذِكْرُ اللَّهِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ دلی بیماریوں کی شفاء ہے

The remembrance of Allah is a cure for diseases of the heart

۱۰۔ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔

Offer peace (Salaam to the people) before talking

۱۱۔ اِرْحَمُوا نَزَحَمُوا رَحْمًا كَرِهَتْ لَكُمْ وَتَرَاحَمُوا نَزَحَمُوا رَحْمًا كَرِهَتْ لَكُمْ

Be kind with others, then others will be kind with you

۱۲۔ الْعِدَّةُ دَيْنٌ وَعِدَةُ قَرْضٍ هِيَ۔

The promise is a debt.

۱۳۔ الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ جَمَاعَتِ رَحْمَتٍ هِيَ۔

The congregation (jama'at) is a mercy (rahmat)

۱۴۔ الْطَّيْرَةُ شِرْكٌ بُرَاشِكُونِ لِيُنَاشِرَكَ هِيَ۔

Taking evil omen is to set up associate to Allah (Shirk)

۱۵۔ لِلْجَارِ حَقٌّ پڑوسی کا بڑا حق ہے۔

The neighbour has a right.

۱۶۔ النَّدَمُ تَوْبَةٌ شَرُّ مَنَدَگِی بَهِی تَوْبَةٍ هِیَ۔

Remorse is repentance

۱۷۔ اَلْخَالَئَةُ بِمَنْزِلَةِ اَلْاُمِّ خَالَه كَامَرْتَبِه مَائِ كِی بَرَابَرِه هِیَ۔

The maternal aunt is equal to the mother

۱۸۔ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ ۚ چَغَل خُورِ جَنَّتِ مِیْنِ دَاخِلِ نَهْ هُوَ گَا۔

A slanderer will not enter the Paradise

۱۹۔ اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ اَلْاُمَمَّهَاتِ جَنَّتِ مَائِ كِی قَدَمُوْمِ كِی نِیچِی هِیَ۔

The Paradise is under the feet of the mothers.

۲۰۔ رِیَاضُ الْجَنَّةِ الْمَسَاجِدُ مَسْجِدِیْنِ جَنَّتِ كِی بَاغِ هِیَ۔

The mosques are the gardens of the Paradise.

۲۱۔ اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ مَوْسِنِ، مَوْسِنِ كَا آئِنَه هِیَ۔

A believer (momin) is a mirror of another believer.

۲۲۔ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ مَسْلَمَانِ، مَسْلَمَانِ كَا بَھَائِی هِیَ۔

A Muslim is a brother of another Muslim

۲۳۔ سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ قَوْمِ كَا سَرْدَارَانِ كَا خَادِمِ هِیَ۔

The master or lord of the community is actually their servant.

۲۴۔ رَاسُ الْحِكْمَةِ فَخَافَةُ اللّٰهِ سَبَّ سِی بَرِّی عَقْلِ مَنَدِی اللّٰهِ كَا خَوْفِ هِیَ۔

The main wisdom is the fear of Allah.

۳۳۔ کُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ہر بدعت گمراہی ہے۔

Every innovation in religion is a misguidance

۳۴۔ کُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

Every intoxicant is unlawful.

۳۵۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ہر مرض کے لئے دوا ہے۔

There is a cure for every disease

۳۶۔ الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ پاکی آدھا ایمان ہے۔

Cleansing is half of the faith.

۳۷۔ لَا تَبَلَّ قَائِمًا کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔

Do not pass urine in standing position.

۳۸۔ کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ہر اچھی بات خیرات ہے۔

Every good thing is a charity.

۳۹۔ الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمِنِينَ وَجَنَّةُ الْكَافِرِينَ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافروں کی جنت ہے۔

The world is a prison for the believers and Paradise for the disbelievers.

۴۰۔ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَتَرْكُ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ عِبَادَةٍ

دنیا کی محبت ہر بُرائی کی جڑ ہے اور دنیا (کی محبت) کا ترک کرنا ہر عبادت کی جڑ ہے۔

The love of the world is a root cause of all evils, and renunciation of

(love of) the world is a root cause of all devotions.

۴۱۔ طلب العلم فریضة "علیٰ کُلِّ مُسْلِمٍ عِلْمٌ كَمَا حَاصِلٌ كَرْنَا هَرْمُسْلِمَانِ پَر فَرَضِ هِے

Seeking Knowledge is a duty of all believers.

۴۲۔ مَن قَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مُّخْلِصًا بِهَا قَلْبَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

جس کسی نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

Whoever says Laa ilaha illallah with sinserity of heart will enter the Paradise.

۴۳۔ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كِفَاعِلُهُ

جو کسی کو نیکی کی رغبت دلائے تو اس کو بھی اُسی قدر ثواب ملے گا۔

جس قدر اس نیکی کو کرنے والے کو ملے گا۔

The one who guides towards right path too will be rewarded like the doer of good deeds.

۴۴۔ حُبُّكَ لِلشَّيْءِ يعمى ويصم کسی شئی کی محبت تجھ کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے

Your love for anything makes you blind and deaf.

۴۵۔ دَعِ مَا يَرِيكُ الِى مَا لَا يَرِيكُ

وہ کام چھوڑ دو جس سے تمہارا دل کھٹکتا ہو وہ کام کرو جس سے دل میں کھٹکانہ ہو۔

Turn down such thing which throws you into confusion. and take up the work which satisfies you.

۴۶۔ كُلُّ مَعْرُوفٍ فَعَلْتَهُ الِى غَنِيٍّ اَوْ فَقِيرٍ صَدَقَةٌ

نیکی صدقہ ہے چاہے امیر کے ساتھ کی جائے یا غریب کے

Every good deed is a charity whether done with a rich or poor person.

۴۷۔ زُرْغَبَاتُ زُدُّ حُبًّا نَاغِدًا كَرَّكَ اِپْنِي دَوَسْت سِي مَلَا قَات كَرَّ، اِس عَمَل سِي مَحَبْت بڑھے گی

Meeting a friend after some interval
will increase the love.

۴۹۔ لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ
جولوگوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر یہ بھی ادا نہیں کرے گا۔

The one who does not thank the people will never
thank Allah too

۵۰۔ لَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا التَّوْبَةُ وَلَا يَزِدُ الْقَدْرَ إِلَّا الدَّعَا
نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ دُعا سے قضا رہوتی ہے۔

Nothing will enhance the age except the good
deeds, and nothing will change the fate except the
invocation of Allah (Du'a)

۵۱۔ اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيكَ تُوَاوِرْتِي رَامَالًا، تِيرِي بَابُ كِي مَلِكِيْتِ هِي۔
You and your wealth is a property of your father

۵۲۔ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً (بخاری)

میری طرف سے قرآن کو دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔

Communicate the Qur'an to others.
from me let it be one verse.

۵۳۔ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ (بخاری)

جو شخص قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

The one who does not recite Qur'an correctly is not from us.

۵۴۔ وَمَنْ يَطَّأِ بِهِ عَمَلَهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبَهُ (مسلم)

جس شخص کا عمل اُسے پیچھے کر دے اُس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔

Whoever commits bad deeds, his lineage will be of
no avail to him (Muslim)

۵۵۔ لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَهِيَ فِيهِمْ مِنْهُمْ لَيْسَ بِهِيَ جَوْعِ عَصَبِيَّةٍ پُرْمَرِے۔

The one who dies with racialism is not from us.

۵۶۔ اَلْظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظُلْمٌ قِيَامَتِ كَعَدْنِ تَارِكِيوں كِي شَكْل ميں هُوْكَ۔

The oppression will appear like darkness
on the Day of Judgment.

۵۷۔ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ

حيا ايمان كى ايك شاخ هے اور ايمان كا مقام جنت هے۔

The shyness is a part of Iman (faith), and the faithful
will live in the Paradise

۵۸۔ اِنْ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي بَشَكِّ ميري رحمت ميرے غضب پر غالب آئے گی۔

Indeed my mercy will overcome my anger

۵۹۔ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

دنيا ميں اس طرح ره گویا تو پر ديسی هے يا مسافر۔

Live in the world like a stranger or a wayfarer.



فراہین مہدی علیہ السلام

حضرت امامنا میراں سید محمد مہدی موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

Hazrat Meeran Sayyed Muhammad

Mahdi Mau'ood AS Said:

۱۔ اِنِّیْ عِبْدُ اللّٰهِ تَابِعٌ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

بے شک میں اللہ کا بندہ اور محمد رسول اللہ کا تابع ہوں۔

Indeed I am a servant of Allah and a follower of
Muhammad the Messenger of Allah

۲۔ عَلِمْتُ مِنَ اللّٰهِ بِلاَ وَسْطَہٗ جَدِيْدُ الْیَوْمِ

میں اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ ہر روز (تازہ) تعلیم پاتا ہوں۔

I am receiving daily new instruction directly from Allah
without any medium.

۳۔ مَذْهَبِ مَنْ كَتَابَ اللّٰهِ وَاتَّبَاعِ رَّسُوْلِ اللّٰهِ۔ اسْت

میرا مذہب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی پیروی ہے۔

My religion is the Book of Allah and adherence to the
Messenger of Allah

۴۔ مَا تَابِعَ كِتَابَ اللّٰهِ دِهْسْتِمِہِمُ اللّٰہِ كِتَابِ (قرآن) کے تابع ہیں۔

We are the followers of the Book of Allah.

۵۔ خلقِ رسوئے توحید و عبادت دعوتِ می کنم

میں مخلوق کو توحید اور (خدا کی) عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔

I am inviting the people towards Unity of Allah
(Tawhid) and worship to Allah.

۶۔ بندہ قدم بقدم رسول ہست بندہ رسول اللہ کے قدم بقدم ہے۔

This servant is walking on the footsteps
of the Prophet ^{PBUH}

۷۔ پس از بندہ تا قیامت فیض مہدی باشد بندہ کے بعد قیامت تک مہدی کا فیض رہے گا۔

The beneficence of Mahdi will continue till the Day of
Judgment even after this servant.

۸۔ اگر کسے رسم و عادت و بدعت کند اور ابہرہ این جائی نرسد

اگر کوئی شخص رسم و عادت و بدعت (اختیار) کرے تو اُس کو یہاں کا بہرہ نہیں پہنچے گا۔

Whoever follows the custom, habit and innovation in
religion will not be benefited from here.

۹۔ قبول مہدی عمل است و گرنہ قبول بے عمل مردور است

مہدی کا قبول کرنا عمل ہے ورنہ بے عمل قبولیت مردود ہے۔

Belief in Mahdi means to practice, without putting into
practice (virtuous deeds) the belief is invalid.

۱۰۔ دریاو خدا باشد تا باطن بکشاید خدا تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتا کہ باطن کھل جائے۔
Remember Allah continuously so that the inner self
(Batin) become wide open.

۱۱۔ ذکر خدا تعالیٰ بکنید تا بینائی خدا تعالیٰ حاصل شود
خدا تعالیٰ کا ذکر کرو تا کہ خدا تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے۔
Constantly remember Allah so that the
vision of Allah is achieved.

۱۲۔ خدائی را بحکایت نخواهید یافت بجز ذکر
خدا کو کہانیوں کے ذریعہ نہ پاسکو گے (بلکہ) صرف ذکر (خدا) سے (پاسکو گے)
Allah cannot be achieved through fables except through
remembrance of Allah.

۱۳۔ دریا حق باشد در ہمہ حال ہر حالت میں خدا کی یاد میں لگے رہو۔
Remember Allah under all circumstances

۱۴۔ درون دل خطرہ غیر حق آید آں را نفی کند
دل میں جو کچھ غیر حق کا خطرہ آئے اُس کی نفی کرو۔
Negate the thoughts of other than Allah which
appears in the heart.

۱۵۔ ہرچہ مانع ذکر است آں ممنوع است جو چیز ذکر خدا میں رکاوٹ ہے وہ منع ہے۔
Which ever thing prevents from remembrance of
Allah is prohibited.

۱۶۔ طالب، خاشاک غیر حق از دل بر کند

طالب (مولیٰ کو چاہئے کہ) غیر حق کے کچرے کو دل سے نکال دے۔

A seeker of Allah should remove the trash of other than Allah from his heart.

۱۷۔ وجودِ حیاتِ دنیا کفر است دنیاوی زندگی کا وجود کفر ہے۔

Existence of the worldly life is (a sign of) disbelief.

۱۸۔ حضرت میراں طالب دنیا را کافر فرمودند حضرت مہدیؑ نے دنیا کے طالب کو کافر فرمایا۔

Seeker of the world is a disbeliever.

۱۹۔ مومن را کسبِ حلال است مومن باید مومن کے لئے کسب کرنا حلال ہے، مومن بننا چاہئے

Making efforts to earn the sustenance (Kasb) is lawful for a believer. but he should be a (true) believer (Momin)

۲۰۔ از خدا جز خدا مطلب خدا سے سوائے خدا کے دوسری چیز مت مانگو۔

Do not seek anything else from Allah except Allah Himself.

۲۱۔ ہرچہ خواہی از خدائی خواہ جو کچھ چاہو خدا سے مانگو۔

Whatever is required must be sought only from Allah

۲۲۔ پیش مردم سوال مکن لوگوں سے سوال مت کرو۔

Do not seek from people.

۲۳۔ یک ذرہ با مخلوق احتیاج نہ نمائید مخلوق سے ذرہ برابر احتیاج نہ رکھو۔

Do not be in need of anything from people

۲۴۔ احتیاج سوئی مرد ماں مکنید برنوشہ تقدیر راضی شوید

لوگوں کے پاس اپنی ضرورتیں مت لے جاؤ اور تقدیر کے لکھے پر راضی رہو۔

Do not refer your necessities to the people, but be content with the divine destiny.

۲۵۔ ہر کہ منتظر فتوح باشد متوکل نہ باشد جو فتوح کا انتظار کرے گا وہ متوکل نہیں ہے۔

Whoever waits for the alms (Futooh) he does not have trust in Allah.

۲۶۔ ہر چہ بے اختیار بندہ، بموافقت شرع می رسد، حلال است

جو کچھ انسان کے اختیار کے بغیر شریعت کے مطابق پہنچ جائے وہ حلال ہے۔

Whatever is permitted by religion (Shar'a) and received unexpectedly in the name of Allah is lawful (Halaal)

۲۷۔ حلال طیب را حساب نیست حلال طیب کے لئے حساب نہیں ہے۔

There is no accountability for purely lawful (Halal-e-Tayyib)

۲۸۔ حلال آنست کہ آنچه در شرع حلال داشته اند

حلال وہ ہے جس کو شرع نے حلال قرار دیا ہے۔

Lawful (Halaal) is defined as the thing declared as lawful by the Islamic law.

۲۹۔ حلال طیب آنست کہ یکا یک بے گماں و بے اختیار برسد

حلال طیب وہ ہے کہ یکا یک بے گمان اور بے اختیار پہنچ جائے۔

Purely lawful (Halaal-e- Tayyib) is the one which is received suddenly and unexpectedly without any effort.

۳۰۔ تسلیم کنید ذات خود را بہ خدائے تعالیٰ اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔

Surrender yourself to Allah the Exalted.

۳۱۔ مومن آں را گویند کہ بینائے حق باشد مومن اُس کو کہتے ہیں جو خدا کا دیکھنے والا ہو۔

A believer is the one who is able to see Allah.

۳۲۔ خدائے را بہ چشم سر دیدنی است باید دید

خدا کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، دیکھنا ہی چاہیے۔

One should try to see Allah through his physical eyes, and he must see Him.

۳۳۔ ہر کہ خدائے تعالیٰ را مقید بیند او مشرک است جو شخص خدا کو مقید دیکھے وہ مشرک ہے۔

Whoever sees Allah as confined (Muqay'yed) is a polytheist.

۳۴۔ ایمان ذات خدا است ایمان خدا کی ذات ہے۔

The faith (Iman) is the essence of Allah (Zaat-e- Khuda)

۳۵۔ تارک ہجرت را منافق فرمودند

(حضرت مہدیؑ نے) ہجرت چھوڑنے والے کو منافق فرمایا ہے۔

Whoever gives up the migration (Hijrah) is a hypocrite

۳۶۔ مہدیؑ و قوم وی را ہیج جا مقام نیست و مسکن نیست

حضرت مہدیؑ اور ان کی قوم کو کسی جگہ پر مقام و مسکن نہیں ہے۔

There is no abode or station at any place for Mahdi
and his followers.

۳۷۔ بے دیانتی است کہ بغیر علم قرآن تفسیر کند بے دیانت ہے کہ قرآن جانے بغیر تفسیر کرتا ہے۔

Whoever expounds the Holy Qur'an without its
knowledge is a dishonest.

۳۸۔ الْفُقْرَاءُ إِذْ تَمَّ فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ جب فقر کامل ہو تو وہ اللہ کا بندہ ہوا۔

He becomes a servant of Allah
when his piety is perfected.

۳۹۔ کسے را کہ توکل بر نان است آں متوکل نیست

جس کا بھروسہ روٹی پر ہے وہ متوکل نہیں ہے۔

Whoever relies on the beard is not having trust in Allah.

۴۰۔ کسے را حرص زیادہ باشد او دوزخی باشد و کسے را کہ قناعت باشد او بہشتی است

جس کو حرص زیادہ ہوگی وہ دوزخی ہوگا اور جس کے لئے قناعت ہے وہ بہشتی ہے

The one who is excessively greedy will go to the Hell
and a content one will go to the Paradise

۴۱۔ قرآن عشق نامہ است قرآن عشق نامہ ہے۔

The Qur'an is a Book of Love (Ishq Naama)

۴۲۔ مرد باش با خدا باش یا پے مرد باش با شیطان مباح
مرد بن، خدا کے ساتھ رہ یا مرد (مرشد کامل) کی پیروی کر شیطان کے ساتھ مت رہ۔
Be a man and live with Allah or follows a man
(Perfect spiritual guide) but do not live with Satan

۴۳۔ کسے کہ بے ادب و بے دیانت و بے شرم باشند ہرگز بہ خدائے تعالیٰ نرسد
جو شخص بے ادب، بے دیانت اور بے شرم ہے ہرگز خدا تعالیٰ کو نہ پہنچے گا۔
A disrespectful, dishonest and immodest person will
never reach Allah the Exalted.

۴۴۔ ہرچہ خدائے تعالیٰ شمارا ہدیہ عشر بدہید
خدا تعالیٰ تم کو جو کچھ دیتا ہے اس کا عشر (دسواں حصہ راہ خدا میں) دو۔
Pay tithe (10%) in the nama of Allah
out of whatever is given by Allah .

۴۵۔ در اتفاق نصرت دین است و در نفاق ہزیمت دین است
اتفاق میں دین کی نصرت (فتح) ہے اور نفاق میں دین کی ہزیمت ہے
The unity results in the victory of religion, and
disunity causes its defeat .

۴۶۔ ہر جا کہ باشد، بیا خدا باشد جہاں بھی رہو خدا کی یاد میں رہو۔
Remember Allah wherever you are.

۴۷۔ تاکہ از خانہ یائے ظاہری اول ہجرت نکند ہجرت باطن حاصل نشود
جب تک ظاہری گھروں سے پہلے ہجرت نہ کریں باطنی ہجرت حاصل نہ ہوگی۔
Without migration from apparent homes, the
migration from inner self will not be achieved.

۴۸۔ بندہ شریعت محمد بیان می کند بندہ شریعت محمدی بیان کرتا ہے۔

This servant presents the religion (Shar'a) of Muhammad

۴۹۔ خدا تعالیٰ ہم چنانچہ نخواہد پرسید کہ پسر احمد است یا محمد است۔ حق تعالیٰ عمل با محبت نخواہد پرسید۔
خدا تعالیٰ یہ سوال نہیں کرے گا کہ احمد کا بیٹا ہے یا محمد کا (بلکہ) حق تعالیٰ عمل با محبت کا سوال کرے گا۔

Allah the Almighty will not ask whether you are a son of Ahmed or Muhammad, but He will judge the deeds on the basis of sincerity and love.

۵۰۔ در ترک کردن دنیا بادشاہ رابادشاہی، و بیوہ زن راجر خہ برابر است

ترک دنیا میں بادشاہ کے لئے بادشاہی اور بیوہ عورت کے لئے چرخہ دونوں برابر ہیں

In case of the renunciation of world, giving up the kingdom by a king and the spinning wheel by a widow, both are same.

۵۱۔ ہر کہ رزق گمانی رانجورد، اور افراد قیامت حساب خواہد شد

جو شخص رزق گمانی کھاتا ہے اُس کو کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔

Whoever eats the doubtful food, he would be required to given an account on the Day of Judgment.

۵۲۔ بندے کا اُمّی، دو جے کے عالم پر فائق پڑے

بندے کا اُمّی دوسرے کے عالم پر فائق رہے گا۔

An illiterate follower of this servant will surpass the scholar of others.

۵۳۔ ہمارے کوئی دیکھتے دکھلاتے مرین ہمارے جو ہیں خدا کو دیکھتے دکھلاتے مر میں گے

Our followers would die seeing and showing Allah.

۵۴۔ تصدیق بندہ بینائی خدا است بندہ کی تصدیق خدا کی بینائی ہے

Belief in this servant means the vision of Allah.

۵۵۔ خدا کی خدائی کو چھی نہیں، بندہ کی طلب کوں چھی نہیں

خدا کی خدائی کو حد نہیں، بندہ کی طلب کو حد نہیں۔

The divinity is limitless, and the
human desire too is limitless

۵۶۔ مرد باش یا پئے مرد باش مردہ، یا مرد کا بیورہ

Be a man or (at least) follow a man

۵۷۔ ہیچ آیت قرآن منسوخ نیست قرآن شریف کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔

None of the verses of Qur'an is abrogated

۵۸۔ حضرت مہدیؑ از کسے خدمت نگر فتند بلکہ مملوکان خود را ہم خدمت نہ فرمودند

حضرت مہدیؑ کسی سے کوئی خدمت نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے مملوکوں (باندی غلام) کو بھی کوئی کام کرنے کے لئے نہیں فرماتے تھے۔

Hazrat Mahdi never used to take services of others, and even
he never asked his personal servants to perform any duty.

۵۹۔ خلق حق تعالیٰ را می بیند نمی شناسد لوگ خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور نہیں پہچانتے۔

Though the people see Allah but do not recognize Him

۶۰۔ آمدن بندہ، بردل ہا، شدہ است نہ بر کسوت ونہ برگفتار
بندے کا آنا دلوں پر ہوا ہے لباس اور گفتار پر نہیں۔

Advent of this servant is (actually) on the hearts, not
on the dress or the speech.

۶۱۔ مقام محمود، ولایت حق تعالیٰ است مقام محمود حق تعالیٰ کی ولایت ہے۔

The praiseworthy station (Muqam-e-Mahmood) is the
Wilayat of Allah.

۶۲۔ بسیار خوار، بسیار خوار، وانڈک خوار انڈک خوار
بہت کھانے والا، بہت خوار اور تھوڑا کھانے والا تھوڑا خوار۔

The one who eats more will be more disgraced, and the
one who eats less will be less disgraced

۶۳۔ مَنْ تَرَكَ لِلَّهِ شَيْئًا فَهُوَ مُفْلِحٌ ۚ جو شخص اللہ کے لئے کوئی چیز چھوڑے گا فلاح پائے گا

He who leaves out anything for the
sake of Allah will be successful.

{ ختم شد }

